

 <p>Regione Lombardia</p> <p>ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	---	--

Preparazione all'esame di Breath Test per Helicobacter Pylori

Gentile Signora, Egregio Signore,

per prepararsi correttamente all'esecuzione del BREATH-TEST Le raccomandiamo:

- DIGIUNO DA 8 ORE
- TERMINE DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA per eliminare l' Helicobacter Pylori DA ALMENO 3 MESI
- NON ASSUMERE ANTIBIOTICI NE' ANTISECRETORI GASTRICI DA ALMENO 1 MESE (es. Omeprazolo, Lansoprazolo, Rabeprazolo, Ranitidina, Esomeprazolo. Pantoprazolo...)

 <p>Regione Lombardia</p> <p>ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
---	---	--

HELICOBACTER PYLORI بیماری کے لیے ٹیسٹ ٹیسٹ کی تیاری کیسے کی جائے

محترم جناب/محترمہ جنابہ

اس ٹیسٹ سے پہلے اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ:

* ٹیسٹ سے 8 گھنٹے پہلے کچھ نہیں کھانا پینا

* اس ٹیسٹ سے کم از کم 3 مہینے پہلے تمام اینٹی بیوٹیک تھراپی ختم کر دیں۔

* اس ٹیسٹ سے ایک مہینہ پہلے کوئی بھی اینٹی پیوٹیک دوائی یا معدے کی جلن یا درد کو کم کرنے والی دوائیاں نہیں لینی۔ مثلاً

(Omeprazolo, Lansoprazolo, Rabeprazolo, Ranitidina, Esomeprazolo, Pantoprazolo...)